

پيلو، گاڙهو ۽ ڪارو. اسان صرف واريءَ جو ڍير ڏٺوسين. ندا ڳالهه وڌائيندي چيو اهي ريگستان جا ميدان سڏبا آهن.

احمد چيو، مان سمنڊ جي ڪناري تي صرف واري ڏٺي. چاچي چيو، توهان اسان کي گهمائڻ وٺي هلجو. ابو ظهبي چئني پاسي وارا ملڪ ريگستاني علائقا واقع آهن. جيڪڏهن شهر کان ٿورو ٻاهر به گاڏي هلائي ويندو ته ميلن تائين واري ڏسي سگهندو، نه وڻ آهن نه ئي پٺيون صرف واري آهي. مان دبئيءَ واري گهر ۾ چئني پاسي پٺيون ۽ ٿڌي پاڻيءَ جو پول ٺاهڻ جو خواب ڏٺو، چاچيءَ چيس، مان ڪافي عرصي بعد هي سڀ ڏسي خوش آهيان. ٻار تقريباً وساري وينا آهن ته جڏهن برسات پوندي آهي ته ڪيئن محسوس ٿيندو آهي. توهان ڄاڻو ٿا ته تقريباً برسات نه پوندي آهي، چاچي چيس. اتي پاڻي ڏاڍو قيمتي آهي نه بارش آهي نه درياءُ آهن نه ڍنڍون آهن نه تلاءُ آهن. ايسٽائين جو زمين هيٺان به پاڻي ڪونهي. ندا ڳالهه ۾ اضافو ڪيو، پر اتي واريءَ واري مٽيءَ جي هيٺان گهڻو تيل آهي. انهيءَ ڪري هنن ملڪن ۾ پيترول آرام سان ملي ويندو آهي، چاچي چيو اصل ۾ پيترول پاڻيءَ کان به سستو آهي. ان کان پوءِ ٽيڪسي احمد جي گهر پهتي. صبا ۽ ندا ڪيترن ئي ميون جهڙوڪ ناريل، ڪيلي، ۽ پيپتي ۽ ڪيترن ئي وڻن کان متاثر ٿيون، ندا چيو، اسان صرف هڪ ئي قسم جو وڻ کڄيءَ جو وڻ ڏسندا هئاسين، ڇو ته اهو واحد وڻ آهي جيڪو ريگستان ۾ پوکبو آهي، اتي ڪارڪ هڪ عام ميوو آهي.

هڪ ٻئي سان ملڻ کان پوءِ چاچيءَ ٿيلهو کوليو. اها هر ڪنهن لاءِ تحفا کڻي آئي هئي. هن سڀني کي ڪارڪون کائڻ لاءِ ڏنيون هيون. ڪارڪون تمام مزيدار ۽ مٺيون هيون. ندا احمد کي ڪجهه ڪرنسي ۽ سڪا ڏيکاري. سڀا تفصيل سان ٻڌايو ته جيڪي پيسا اسين خرچ ڪندا هئاسين اهي مختلف هئا ۽ درهر سڏبا آهن. انهن تي علائقائي زبان عربيءَ ۾ ڪجهه لکيل هيو.

انهن ڪيتريون تصويرون به ڏيکاريون جتي اهي رهندا هئا. چاچي احمد کي نقشو ڏنو، هن کيس چيو، احمد هن تي ابو ظهبي ڇو نه ٿو ڳولهي ڏيکارين؟ دنيا جي نقشي جي حساب سان مختلف جاين تي ٻار کيڏي رهيا آهن. احمد ڪراچي ۽ سکر به ڏٺو.

شام جو هر ڪو پٿر ۾ ويٺو، تازي هوا جو مزو وٺندي ۽ تصويرون ڏسندي، انهن ابو ظهبيءَ جي ڊگهين ۽ گهڻ منزل ۽ شيشي جون وڏيون دريون ڏنيون، احمد چيو، توهان دريءَ منجهان صبح جي تازي هوا مان لطف اندوز ٿيندا هوندو. چاچي چيو، اسان گرميءَ جي ڪري دريون نه کولي

سگھندا آھیون. اندر ایئر کنڈیشن ہوندا آھن جتنی اسان رھندا آھیون. جڏھن موسم تمار گرم ہوندو آھی ماٹھو ویکرا کاتن جا کپڙا پائیندا آھن ۽ پاڻ کي سني نموني ڍکیندا آھن ۽ پنھنجو مٿو بہ ڍکیندا آھن. اھو سج جي سخت گرميءَ کان بچائیندو آھی. احمد تصویرون ڏسي ۽ ٻئي ملڪ کان پنھنجي سؤتن کي ڏسي ڏاڍو خوش ٿيو. هن مسلسل پنھنجي شھر جي شين جو ابو ظھبي جي شين سان پيٽ کڻي. هن فيصلو ڪيو تہ ابو ظھبي جي باري ۾ پنھنجي ڪلاس لاءِ ھڪ پروجيڪٽ ٺاھيندو.

دیس اور پردیس

آج احمد کے گھر پر بہت سارے کام ہیں۔ چچا اور ان کے گھر والے پانچ سال بعد آرہے ہیں۔ پانچ سال پہلے چچا کی نوکری ایک ملک ابو ظہبی میں لگی تھی۔ اس وقت تک وہ وہاں رہے۔ احمد اور اس کی بہن ان کو لینے ہوئی اڈے پر گئے۔

زمین پر جہاز کے اترنے کے بعد، مسافر تھوڑی دیر تک اپنے سامان اکٹھا کرنے کا انتظار کرتے رہے۔ آخر میں چچا اور چچی اور ان کے دو بچے آتے ہوئے نظر آئے۔ بہن نے کہا، صبا اور ندا کتنی بڑی ہو گئیں ہیں۔ جلد ہی بہت کپڑوں کے ڈبے (سوٹ کیس) اور بیگ ٹیکسی میں رکھے گئے اور سب احمد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ احمد نے کہا، صبا تم اپنے لمبے سفر سے بہت تھک گئی ہو گی اور بہن نے مجھے بتایا کہ ابو ظہبی ایک ملک ہے جو پاکستان سے بہت دور ہے۔

صبا نے کہا، ”ہم نہیں تھکے،“ اگرچہ یہ دور ہے لیکن ہمارے جہاز نے صرف دو گھنٹے لیے، ”جہاز بہت تیز اڑتا ہے۔“ احمد بہت متاثر ہوا۔ اس کو یاد آیا جب وہ اسکول کے گھومنے کے موقع پر کراچی گئے تھے اور ٹرین نے تقریباً آٹھ گھنٹے لیے تھے۔ اور نقشے میں کراچی اور خانیوال تھوڑا قریب دکھائی دیتے ہیں۔ احمد، صبا اور ندانے ہوئی اڈے سے گھر تک باتیں کیں۔ احمد کو یاد آیا کہ اس نے اسکول کی تفریح کے سفر میں کتنا مزہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ صبا ان کو ابو ظہبی کے سفر کے بارے میں بتائے۔

احمد نے پوچھا، ”کیا تم نے جہاز سے بہت ساری دلچسپ چیزیں دیکھیں؟“
”زیادہ وقت تک تو ہمارا جہاز صرف بادلوں سے اوپر تھا“ صبا نے کہا۔ ”لیکن بہت

اونچائی پر اڑنے سے پہلے جب وہ ریت والے علاقوں کے اوپر سے اڑ رہا تھا۔ یہ ریت تھی لیکن اس کارنگ بدل رہا تھا جیسے سفید، براؤن، پیلا، لال اور کالا۔ ہم نے صرف ریت کے ڈھیر کو دیکھا۔ ”ندانے بات کو بڑھایا، ”یہ ریگستان کے میدان کہلاتے ہیں۔“

احمد نے کہا، ”میں نے سمندر کے ساحل پر صرف ریت دیکھی۔“ چچا نے کہا، ”تم ہمیں گھمانے لے کر چلنا۔“ ابو ظہبی کے چاروں طرف ممالک ریگستانی علاقوں پر واقع ہیں۔ اگر شہر سے وہاں تھوڑا سا بھی گاڑی چلائے گا وہ میلوں تک ریت دیکھ سکتا ہے، نہ درخت ہیں نہ ہی کھیت ہیں صرف ریت ہے۔“ میں نے دبئی والے گھر میں چاروں طرف گھنے کھیت اور ٹھنڈے پانی کا پول بنانے کا خواب دیکھا، چچی نے کہا۔ ”میں کافی عرصے بعد یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں۔“

بچے تقریباً بھول گئے جب بارش ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو ریگستانی علاقوں میں تقریباً بارش نہیں ہوتی، ”چچا نے کہا۔ ”وہاں پانی بہت قیمتی ہے۔ نہ بارش ہے۔ نہ دریا ہیں، نہ جھیلیں ہیں، نہ ہی تالاب ہیں۔ یہاں تک زمین کے نیچے بھی پانی نہیں ہے۔ ندانے اضافہ کیا، ”لیکن“ وہاں ریت والی مٹی کے نیچے بہت سارا تیل ہے۔ اس لیے ان ممالک میں بیٹرول آرام سے مل جاتا ہے۔ چچا نے کہا، اصل میں بیٹرول پانی سے سستا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسی احمد کے گھر پر پہنچ گئی صبا اور ندا بہت سارے پھلوں جیسے ناریل، کیلا اور پیسے اور بہت سارے درخت سے متاثر ہوئیں! ندانے کہا، ہم تو صرف ایک ہی قسم کا درخت کھجور کا درخت دیکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک واحد درخت ہے جو ریگستان میں اگتا ہے۔ وہاں کھجور ایک عام پھل ہے۔

ایک دوسرے سے ملنے کے بعد چچی نے بیگ کھولا۔ وہ ہر کسی کے لیے تھنے لائی تھیں۔ انہوں نے سب کو کھجوریں کھانے کے لیے دیں۔ کھجوریں بڑی مزے دار اور میٹھی تھیں۔ ندانے احمد کو کچھ کرنسی اور سکے دکھائے۔ صبا نے تفصیل سے بتایا کہ جو پیسے ہم دبئی میں استعمال کرتے تھے وہ مختلف تھے اور درہم کہلاتے ہیں۔ ان پر مقامی زبان عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔

انہوں نے بہت ساری تصویریں بھی دکھائیں جہاں پر وہ رہے۔ چچا نے احمد کو دنیا کا

نقشہ دیا۔ انہوں نے کہا، احمد تم اس پر ابو ظہبی کیوں نہیں دیکھتے؟ دنیا کے نقشے کے حساب سے مختلف جگہوں پر بچے کھیل رہے ہیں۔ احمد نے کراچی اور سکھر کو بھی دیکھا۔

شام میں ہر کوئی صحن میں بیٹھا، تازہ ہوا کا مزہ لیتے اور تصویریں دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے ابو ظہبی کی لمبی اور بہت ساری منزلہ اور شیشے کی بڑی کھڑکیوں کو دیکھا۔ احمد نے کہا، ”آپ کھڑکی سے صبح کی تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔“ چچا نے کہا، ہم گرمی کی وجہ سے کھڑکی نہیں کھول سکتے۔ یہ اندر سے ایئر کنڈیشن ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ جب موسم بہت گرم ہوتا ہے لوگ ڈھیلے کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور خود کو اچھی طرح ڈھانپتے ہیں اور اپنا سر بھی ڈھانپتے ہیں۔ یہ سورج کی سخت گرمی سے بچاتا ہے۔

احمد نے تصویریں دیکھ کر اور دوسرے ملک سے اپنے چچا زاد (کزنس) کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مسلسل اپنے شہر کی چیزوں کا ابو ظہبی کی چیزوں سے موازنہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابو ظہبی کے بارے میں اپنی جماعت کے لیے ایک پروجیکٹ بنائے گا۔

DIFFICULT WORDS AND MEANING

Activity	ایکتوتی	مشغولی	مشغولی
Uncle	انکل	چاچو، مامو	چچا، ماموں
Airport	ایئر پورٹ	ہوائی اڈا	ہوائی اڈہ
Receive	ریسیو	حاصل کرنا، ونٹ	حاصل کرنا، لینا
Landed	لینڈیڈ	لہٹ	اترنا
Passenger	پیسینجر	مسافر	مسافر
Aunt	آنت	چاچی، مامی	چچی، مامی
Fitted	فٹڈ	لہگل	لگے ہوئے
Tired	تائرڈ	ٹکیل	تھکے ہوئے
Remember	رمیمبر	یاد کرنا	یاد کرنا
Chatted	چیتید	گالہ بولہ کرنا	بات چیت کرنا
Fun	فن	مزو، تفریح	مزہ، تفریح
Trip	ٹریپ	گھمن	گشت

Interesting	انتريسٽنگ	دلچسپ	دلچسپ
Sand	سئنڊ	واري	ريت
Dune	ڊيون	واريءَ جو دڙو	ريت کاٺيلا
Seashore	سي شور	سمنڊ جو ڪنارو	ساحل سمندر
Located	لوڪيٽيڊ	واقع	واقع
Greenery	گريٽري	ساوڪ	ببزه زار
Forgotten	فرگاتن	وساريل	بھولا ھوا
Feels	فيلس	محسوس ڪرڻ	محسوس ڪرنا
Precious	پريشس	قيمتي	قيمتي
Sandy	سيٽنڊي	وارياسو	ريٽيلا
Available	اويليبل	موجود، مهيا	ميسر
In fact	ان فيڪٽ	حقيقت ۾	حقيقت ۾
Surprised	سرپرائيزڊ	حيران ٿيو	حيران ھوا
Coconut	ڪوڪونٽ	ناريل	ناريل
Banana	بانا	ڪيلو	ڪيلا
Papaya	پپيا	پپيتو	پپيٽا
Date palm	ڊيٽ پام	ڪچيءَ جو وڻ	ڪھجور کا درخت
Unpacked	ان پيڪڊ	ڪوليو	ڪھولا
Local	لوڪل	علائقائي	علائقائي
Globe	گلوب	نقشو	نقشه
Enjoyed	انجوائڊ	مزو ڪيو	مزه ڪيا
Breeze	بريز	ٿڌي ھوا	ٿڌي ھوا
Protect	پروٽيڪٽ	حفاظت ڪرڻ	حفاظت ڪرنا
Constantly	ڪنس ٽنٽلي	سڌائين	ھميشه
Comparing	ڪمپيئرنگ	پيٽ ڪرڻ	موازنه ڪرنا

Exercise

A Answer the following questions.

1. Why do you think many trees cannot grow in desert areas?

Ans: Many trees cannot grow in desert areas because of water.

2. Do you have any relatives who live in another country?

Ans: Yes, My relative lives in Saudi Arabia. OR No, I don't have any relative who lives in another country.

3. How Abu Dhabi is different from Karachi?

Ans: Abu Dhabi is a desert area, while Karachi is a plain area.

4. What was the common fruit in Abu Dhabi?

Ans: The common fruit in Abu Dhabi was dates.

5. Why did Ahmad's uncle gave him a globe?

Ans: Ahmad's uncle gave him a globe to locate Abu Dhabi.

6. Why were the people of Abu Dhabi do not open their windows?

Ans: The people of Abu Dhabi do not open their windows because of heat.

7. Which is the fastest means of transport?

Ans: Aeroplane is the fastest mean of transport.

B Choose the correct answer:

1. Ahmad met his cousins:

- (a) Saba and Nida ✓ (b) Ayza and Aiman
(c) Hira and Fatima

2. They took from airport to reach home by:

- (a) car (b) bus (c) taxi ✓

3. Aunt brought for everyone:

- (a) gifts ✓ (b) clothes (c) chocolates

4. The money of Abu Dhabi is called:

- (a) Royal (b) Pond (c) Dirham ✓

5. Below the sands in Abu Dhabi is:
 (a) water (b) oil ✓ (c) minerals

C Fill in the blanks with suitable words:

1. Uncle had got a job in a country called Abu Dhabi five years ago.
2. Ahmad wanted Saba to tell them all about her trip from Abu Dhabi.
3. It was sand but the colour of the sand kept changing.
4. I used to dream of the thick greenery and cool water around our home.
5. They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many storeys and big glass windows.

D Match the columns:

Column A

Saba and Nida Belong to
 They came home back
 Their flight took
 They saw clouds
 Nida showed Ahmad

Column B

some notes and coins
 when they was in plane
 Abu Dhabi
 after five years
 only two hours

E Use the following words in sentences.

surprise I want to give you a surprize.
 greenery There is greenery around the city.
 almost There are almost people working in fields.
 really Really I am telling you a truth.
 globe Look at the globe to find the location of country you want.
 breeze We feel cool breeze in the morning.

F Rearrange the sentences.

1. got job a had uncle.
2. then he lived had since there.

3. the landed after plane.
4. dunes sand are they called.
5. tired are not we.

ANSWER:

1. Uncle had got a job.
2. Since then he had lived there.
3. After the plane landed.
4. They are called sand dunes.
5. We are not tried.

G Write down the plurals of singulars.

singular	plural	singular	plural	singular	plural
window	windows	date	dates	desert	deserts
cousin	cousins	area	areas	mile	miles

H Tick (✓) on true sentence and (✗) on false:

1. After the plane landed, the passengers had to wait for some times to collect their luggage. ✓
2. Soon the many suitcases and bags were fitted into the plane. ✗
3. Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high. ✓
4. I have seen sand only at the desert," said Ahmad. ✓
5. Uncle said, "We cannot open the windows because of the heat. ✓

Grammar:

Read the story and fill in the blanks with was, were or will be.

Once upon a time there was a country called Merryland. In this country there was a village called “Cheerville.” There were cheery people in that village. They always smiled at each other and led a joyous life. Whenever they will be free and feeling happy, they sang songs to cheer up the village. There will be no wars. There were no foes. There were many moments of happiness! There were more friends. There were more dreams. There will be many moments of happiness!

I Wonder مان حيران آهيان

مان حيران آهيان ته گاهه ڪيئن سائو آهي،
۽ هوا ڪڏهن به نظر چو نه ٿي اچي؟

ڪنهن پڪين ڪي آڪيرا ٺاهڻ سيڪاريا،
۽ وڻن ڪي آرام ڪرڻ لاءِ ٻڌايو؟

يا چنڊ جڏهن پورو گول نه هوندو آهي،
ڪٿي گم ٿيل ٽڪرو ملي سگهي ٿو؟

ڪير ستارن ڪي روشني ڏي ٿو جڏهن اهي نڪرن ٿا؟
۽ روشنيءَ ۾ چمڪن ٿا؟

ڪير آسمان تي انڊلٺ ٺاهي ٿو؟
۽ ڪڪرن ڪي مٿي لڙڪائي ٿو؟

اهو هاڻي ائين چو آهي،
چا توهان اندازو لڳائي سگهو ٿا؟

میں حيران ہوں

میں حيران ہوں کہ کیسے گھاس ہری ہے،
اور ہوا کیوں کبھی دکھائی نہیں دی؟

کس نے پرندوں کو گھونسلے بنانا سکھایا،
اور درختوں کو آرام کرنے کا بتایا؟

یا، جب چاند پورا گول نہیں ہوتا
کہاں گم ہوا ٹکڑا مل سکتا ہے؟

کون ستاروں کو روشنی دیتا ہے، جب وہ باہر نکلتے ہیں؟

اور روشنی میں چمک بناتے ہیں؟

کون آسمان پر قوس و قزح بناتا ہے

اور بادلوں کو بہت اونچا لٹکاتا ہے؟

یہ اب کیوں ہے، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔

DIFFICULT WORDS AND MEANING

Wonder	وندر	حیران ٹیٹ	حیران، ہونا
Wind	ونڈ	ہوا	ہوا
Round	رائونڈ	گول	گول
Blow	بلو	گھلٹ	چلنا
Lightning	لائٹننگ	کنوٹ	بجلی
Flash	فلش	چمک	چمک
Rainbow	رینبو	انڈلٹ	قوس و قزح
Fluffy	فلفی	نرم	ملائم
Suppose	سپوز	مثال طور	مثلاً

Exercise

A Answer the following questions.

1. Write down the rhyming words you can find in the poem.

Ans: Green, Seen, nest, rest, round, found out, about, sky, hight.

2. How many lines are there in this poem?

Ans: There are eleven 11 lines in this poem.

3. What are the images (pictures) that come to your mind when you read this poem? e.g. :- green grass

Ans: Green grass, nest, trees, moon, stars, rainbow, sky, and clouds.

4. When the moon is full round?

Ans: The moon is full round between the 10 and 15 dates.

5. Who taught the birds to build nests?

Ans: Allah Almighty taught the birds to build nests.

6. Who is the creature of everything?

Ans: Allah Almighty is the creature of everything.

B Choose the correct answer:

- The title "I Wonder" means the speaker is:
(a) impatient (b) curious (c) happy
- What is never seen?
(a) clouds (b) wind ✓ (c) lightning
- According to the poem, the trees are:
(a) growing (b) swing in the wind (c) resting ✓
- The person who speaks here is a:
(a) woman (b) child (c) man ✓
- The colour of grass is:
(a) purple (b) yellow (c) green ✓

C Tick (✓) on true sentence and (✗) on false:

- I wonder why the grass is green. ✓
- The wind is always seen. ✗
- The moon is not quite round. ✓
- Hangs the fluffy clouds so low. ✗
- Mother won't tell me, if she knows? ✗

D Fill in the blanks with suitable words:

- I wonder why the grass is green,
- Who taught the birds to build a nest,
- Who lights the stars, when they blow out,
- Who paints the rainbow in the sky,
- And told the trees to take a rest?

E Write down the plurals of singulars.

singular	plural	singular	plural	singular	plural
wind	winds	star	stars	cloud	clouds
nest	nests	light	lights	moon	moons

F Use the following words in sentences.

wonder I wonder to see tall trees.

wind Wind is blowing w.....o....o..s...h

round We see the moon half sometimes and sometimes
roun in shape.

hang Please hang my clothes in hanger.


suppose Suppose I have teen lack rupees in my hand.

rainbow The rainbow has seven colours.

G Match the columns:

Column A

grass is
wind is
trees are
birds build
Allah is creature



Column B

never seen
of everything
nests
green
taking rest

Grammar:

Complete the table.

tall	taller	tallest
deep	deeper	deepest
simple	simpler	simplest
shallow	shallower	shallowerest
low	lower	lowest
warm	warmer	warmest


Grammar:

Complete the table.

tall	taller	tallest
old	older	oldest
young	younger	youngest
high	higher	highest
cold	colder	coldest
busy	busier	busiest
slow	slower	slowest
funny	funnier	funniest

The monkey and the crocodile

پولٽو ۽ مانگر مچ



هڪ دفعي، درياءَ جي ڪناري تي هڪ پولٽي ميون سان ڀريل هڪ وڻ تي پنهنجو گهر ٺاهيو. اهو خوشيءَ سان پنهنجي مرضيءَ جي ميون سان گڏ رهڻ لڳو. پولٽو خوش هيو پر اڪيلو هو ۽ هڪڙو دوست ٺاهڻ چاهي پيو جنهن سان هو ڳالهائي سگهي ۽ ميوا ورهائي سگهي. پر ڪوئي هن جي ڀرپاسي نه هيو، نه ڪوئي ٻيو پولٽو. هڪ ڏينهن درياءَ مان هڪ مانگر مچ ظاهر ٿيو.

پولٽي چيو، هيلو. ڇا تون هن درياءَ ۾ رهندو آهين؟ ڇا تون ڪجهه ميوا کائڻ پسند ڪندين؟ مانگر مچ پيار مان جواب ڏنو، صبح جو سلام. مان هتي پنهنجي گهر واريءَ جي لاءِ کاڌي جي تلاش ۾ آيو آهيان. تون ميون جي دعوت ڏئي سٺو ڪيو.

پولٽي پنهنجي وڻ جي سڀ کان ويجهي شاخ مان ڪجهه ميوا پٽيا ۽ هيٺ اڇليا. مانگر مچ کي ڏاڍو مزو آيو. هن چيو، مهرباني. مان ڪجهه ٻئي ڏينهن اچي وٺندس. ڇو نه، جيترا به توکي گهرجن ۽ پنهنجي گهرواريءَ لاءِ به، پولٽي چيو، واپس ٻيهر اچجان، مان هتي بلڪل اڪيلو آهيان.

مانگر مچ لڳاتار پولٽي وٽ ايندو رهيو ۽ ميوا کائيندو رهيو جيڪي ميزبان هيٺ اڇليندو هو. هو ڪجهه پنهنجي گهرواريءَ لاءِ کڻي

ويندو هو. پولٽو ۽ مانگر مچ هاڻي سنا دوست ٿي ويا هئا. هو ڳالهيون ڪندا رهندا هئا ۽ نه ٿڪبا هئا. هو پڪين ۽ جانورن، پنهنجي ويجهي ڳوٺ باري ۾ ۽ ڳوٺاڻن جي مسئلن جي باري ۾ جن سان اهي مينهن ڏيندا هئا، مينهن جي گهٽ پوڻ جي سبب فصل گهٽ ٿيڻ جي باري ۾ ڳالهائيندا رهندا هئا.

هڪ ڏينهن مانگر مچ پولٽي سان تمام گهڻي دير تائين ويهي رهيو. ان جي گهرواري سندس انتظار ڪندي، ندين بچن جي سار سنڀال ڪندي پريشان ٿي وئي. هن چيو، اهو ڪهڙو تنهنجو دوست آهي جنهن ۾ توکي ايڏي دلچسپي آهي؟ هي تمام سٺو پولٽو آهي، هن جواب ڏنو. هو ميون جي هڪ وڻ تي رهندو آهي، هو اسان کي روزانو ميوو ڏيندو آهي.

هڪ سٺو پولٽو، مون کي يقين آهي، هن بيشڪ ڪاوڙ ۾ چيو. جيڪڏهن مان توکي چوان، هي پولرو منهنجي خوراڪ بڻجي، مان هن جي دل کائڻ چاهيان ٿي.

تون هي ڪهڙيون فالتو ڳالهيون ڪري رهي آهين! مانگر مچ رڙ ڪري چيو. مان پنهنجي دوست کي نه ٿو ماري سگهان.

ان کي هتي وٺي اچ، گهر واريءَ حڪم ڏنس. مان ان کي ڏسڻ ٿي چاهيان. ڇا تون هن کي کائڻ ٿي چاهين ڪڏهن به نه، سندس مڙس واضح ڪري چيو. هن جي گهرواري ضدي هئي ۽ هن درياءَ جي گهرائيءَ ۾ ٽپي هئڻي ۽ لڪي پئي، ۽ سار سنڀال جي لاءِ ٻارن کي سندس پيءُ وٽ ڇڏيائين. مانگر مچ ڏاڍي ڪشمڪش ۾ هو. هو پنهنجي گهرواريءَ سان پيار ڪندو هو ۽ کيس پنهنجي دوست ۾ به دلچسپي هئي. آخر ۾ هن پنهنجي گهرواريءَ جي ڀر ڪڍڻ جو فيصلو ڪيو، ڇو ته اها سندس شريڪ حيات هئي. هن پاڻ کي چيو هڪ دوست کي دوکو ڏيڻ گناهه آهي، پر مون وٽ ٻيو ڪوئي رستو نه آهي. مان پولٽي کي پنهنجي گهر گهرائيندس ۽ چڱائيءَ جي اميد رکندس.

جڏهن مانگر مچ ٻيهر پولٽي وٽ ويو، مانگر مچ چيو منهنجي گهرواريءَ تنهنجي دعوت ڪئي آهي منهنجا پيارا دوست، توکي ضرور اچ منهنجي گهر هلڻو پوندو. پولٽي خوشيءَ ۾ چيو مون کي ترڻ نه ايندو آهي، پر تنهنجي پٺيءَ تي ويهي سفر ڪري سگهان ٿو، ۽ ٻئي ٻاهر نڪري پيا. درياءَ جي وچ ۾ جتي لهرون تمام گهڻيون هيون مانگر مچ پنهنجي نيت نه لڪائي سگهيو. مونکي معاف ڪجان منهنجا دوست، ان گهراڻي ۾ چيو پر هاڻي مون کي پاڻيءَ جي گهرائيءَ ۾ وڃڻو پوندو، مان توکي هتي مارڻ جي لاءِ وٺي آيو آهيان. منهنجي گهرواري تنهنجي دل کائڻ کان بغير نه ٿي رهي سگهي. خدا حافظ.

پولٽو پريشان ۽ مايوس ٿيو پر هو سڀني پولٽن جيان عقلمند ۽ چالاک هو. هن پنهنجو ذهن ٿڌو رکيو. آرام سان چيو، مان تنهنجي لاءِ ۽ تنهنجي خاندان لاءِ ڪجهه ڪندس، تون منهنجو هڪڙو دوست آهين، هونئن به پولٽي جي دل ۽ تنهنجي گهرواريءَ جي زندگيءَ جو ڪهڙو مقابلو؟ پر تون ايڏو بيوقوف ڪيئن ٿو ٿي سگهين؟

تون مونکي پهريان چو نه ٻڌايو؟ مان توکي اتي ئي پنهنجي دل ڏئي ڇڏيان ها. مانگر مچ معصوميت مان پڇيو، پر تنهنجي دل ڪٿي آهي؟ مان سوچيو ته اها هر وقت توسان گڏ هوندي. يقينن نه، اها وڻ تي پئي آهي، اڄ بهر واپس ترندا هلون ۽ اها ڪٿي اچون، تنهنجي گهرواري انتظار ڪندي هوندي، پولٽي اعتبار حاصل ڪندي چيو. اڙي پيارا دوست! اها ڪهڙي غلطي ٿي وئي مانگر مچ چيو، اهڙيءَ طرح مانگر مچ وڻ طرف مڙيو درياءَ جي ڪناري تي ٿيو ڪاٿي وڻ تي چڙهي ويو ۽ سڪون جو ساهه کنيائين. ان پنهنجي وڻ جي ويجھي شاخ مان هڪ يا ٻه ميوا پٽيا ۽ هيٺ اڇلايائين، تازو ميوا ذهن ۽ جسم جي لاءِ سٺا هوندا آهن، خدا حافظ دوست ۽ تون ڪاوڙ نه ڪجان، هاڻي اسان بيهر نه ملنداسين.

مانگر مچ ڏک ۽ ڏاهپ سان ڪجهه ڳوڙها وهايا جيڪي اصلي هئا ۽ واپس هليو ويو. هو پنهنجي گهرواريءَ کي هڪ ٻه ڳالهه ٻڌائڻ جي جلديءَ ۾ هيو.

بندر اور مگر مچ

ايڪ دفعه، دريا ڪنارے پر ايڪ بندر نے پھل سے بھرے ہوئے ايڪ درخت پر اپنے ليے ايڪ گھر بنايا۔ وہ خوشي سے اپنی مرضی کے پھلوں کے ساتھ رہنے لگا۔ بندر خوش تھا ليڪن اڪيلا تھا اور ايڪ دوست (ساتھی) بنانا چاهتا تھا جس سے وہ بات ڪرے اور پھلوں کو بانٽے۔ ليڪن کوئی اس کے ارد گرد نہيں تھا، نہ ہی کوئی دوسرا بندر، ايڪ دن دريا کی طرف ايڪ مگر مچ ظاھر ھو۔

بندر نے کہا، ”ھيلو۔“ ”کيا تم اس دريا میں رہتے ھو؟“ ”کيا تم ڪجهه پھل کھانا پسند ڪر وڃو؟“ مگر مچ نے پيار سے جواب میں کہا، ”صبح بيخیر۔“ میں يھان اپنے اور اپنی بيوی کے ليے کھانے کی تلاش میں آيا ھوں۔ تم نے مجھے پھل کی دعوت دے ڪرا چھا کيا۔“

بندر نے اپنے درخت کی سب سے قريب شاخ سے ڪجهه پھل ٽوڙے اور ان کو نيچے پھيڪا۔ مگر مچ کو ان میں مزه آيا۔ اس نے کہا، ”شڪريہ۔“ میں ڪجهه اپنے اگلے دن کے ليے لوں

گا۔ ”کیوں نہیں، جتنے بھی تمہیں چاہیں اور اپنی بیوی کے لیے بھی، بندر نے کہا۔ واپس دوبارہ آنا۔ میں یہاں بالکل اکیلا ہوں۔“

مگر چھ مسلسل بندر کے پاس آتا اور پھل کھاتا جو اس کا میزبان نیچے پھینکتا۔ وہ کچھ اپنی بیوی کے لیے گھر لے جاتا۔ بندر اور مگر چھ اب بہت اچھے دوست تھے۔ وہ باتیں کرتے رہتے اور باتوں میں نہیں ٹھٹھتے۔ وہ پرندوں اور جانوروں، اپنے قریبی گاؤں کے بارے میں اور گاؤں والوں کے مسائل کے بارے میں جن کا وہ سامنا کرتے تھے، بارش کی کمی کی وجہ سے فصل کے کم اگنے کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔

ایک دن مگر چھ بندر کے ساتھ زیادہ بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی اس کا انتظار کرتے ہوئے، چھوٹے مگر مچھوں (جو ابھی انڈے سے باہر آئے تھے) کی دیکھ بھال کرتے ہوئے پریشان ہوئی۔ اس نے کہا، وہ تمہارا کون سا دوست ہے جس میں تم دلچسپی لیتے ہو؟“ ”ارے، یہ بہت اچھا بندر ہے،“ اس نے جواب دیا۔ ”وہ پھل کے ایک درخت پر رہتا ہے۔ وہ ہمیں روزانہ پھل دیتا ہے۔ تم مجھ سے توقع نہیں کر سکتیں کہ میں یہ کروں گی؟“

”ایک اچھا بندر، مجھے یقین ہے، اس نے بلاشبہ غصے میں جواب دیا۔“ اگر میں تم سے کہوں، یہ بندر میری خوراک بنے۔ میں اس کے دل کو اچھی طرح کھانا چاہتی ہوں۔

”تم یہ کیا فالتو باتیں کر رہی ہو!“ مگر چھ چیخا۔ ”میں اپنے دوست کو نہیں مار سکتا،

میرا خیال ہے کہ اتفاق سے بندر کے ذریعے ذائقہ تبدیل ہو جاتا۔“

”اس کو یہاں لاؤ،“ بیوی نے حکم دیا۔ ”میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔“ ”کیا تم اس کو کھانا چاہتی ہو۔ کبھی نہیں!“ اس شوہر نے واضح کیا۔ اس کی بیوی خوفناک تھی اور اس نے دریا کی گہرائی میں غوطہ لگایا اور خود کو چھپا لیا۔ اور دیکھ بھال کے لیے بچوں کو ان کے باپ کے پاس چھوڑا۔ مگر چھ خاص کشمکش میں تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو اپنے دوست میں بھی دلچسپی تھی۔ آخر میں اس نے اپنی بیوی کی طرف داری کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں کہ وہ اس کی شریک حیات تھی۔ اس نے خود سے کہا، ایک دوست کو دھوکا دینا گناہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں بندر کو اپنے گھر بلاؤں گا اور اچھے کی امید کروں گا۔“

جب مگر مجھ نے دوبارہ بندر کی طرف دورہ کیا، مگر مجھ نے کہا میری بیوی نے تمہاری دعوت کی ہے، پیارے دوست، تمہیں ضرور آج میرے گھر چلنا ہوگا۔“ بندر نے خوشی سے کہا، میں تیرا نہیں جانتا، لیکن تمہارے اوپر بیٹھ کر سفر کر سکتا ہوں۔“ اور وہ دونوں باہر نکلے۔ دریا کے درمیان میں جہاں لہریں بہت مضبوط تھیں، مگر مجھ زیادہ دیر تک اپنی نیت نہیں چھپا سکا۔ ”مجھے معاف کرنا میرے دوست،“ اس نے گھبرا کر کہا، لیکن اب مجھے پانی کے نیچے جانا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں مارنے کے لیے لایا ہوں۔ میری بیوی تمہارا دل کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خدا حافظ۔

بندر پریشان اور مایوس تھا۔ لیکن یہ تمام بندروں کی طرح عقل مند اور چالاک تھا۔ اس نے اپنا ذہن ٹھنڈا رکھا۔ آرام سے اس نے کہا، ”میں تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے کچھ کروں گا۔ تم میرے اکلوتے دوست ہو۔ ویسے بھی بندر کے دل اور تمہاری بیوی کی زندگی کا کیا مقابلہ؟ لیکن تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟

”تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں وہاں ہی اپنا دل دے دیتا۔“ مگر مجھ نے معصومیت سے پوچھا، ”لیکن تمہارا دل کہاں ہے؟“ میں نے سوچا کہ تم ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتے ہو،“ ”یقیناً نہیں۔“ یہ وہاں درخت پر ہے۔“ ”اُدوبارہ واپس تیرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں۔ تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی،“ بندر نے اعتماد حاصل کرتے ہوئے کہا۔ ”ارے پیارے! یہ کیا غلطی ہو گئی!“ مگر مجھ لہرایا۔ وہ زور سے ہنسے اس طرح مگر مجھ درخت کی طرف مڑا۔ دریا کے کنارے پر بندر چھلانگ لگا کر درخت پر چڑھ گیا اور سکون کی سانس لی۔ اس نے اپنے درخت کے قریب شاخ سے ایک یادو پھل توڑے اور ان کو نیچے پھینکتے ہوئے کہا، تازہ پھل ذہن اور جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ خدا حافظ، دوست اور تم برا نہیں مانا، اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔

مگر مجھ نے اداسی اور عقل مندی سے کچھ آنسو بہائے جو اصلی تھے اور گھر واپس آگیا۔ وہ اپنی بیوی کو ایک دو چیزیں بتانے کی جلدی میں تھا۔

DIFFICULT WORDS AND MEANING

Bank	بئنڪ	ڪنارو	ڪنارو
Happily	هٽپلي	خوشيءَ سان	خوشيءَ سان
Content	ڪنٽينٽ	خوش	راضی
Choice	چوائس	پسند	پسند
Companion	ڪمپنيئن	ساٿي، دوست	ساٿي، دوست
Around	ارائونڊ	چؤڌاري	چاروں اور
Appeared	اڀيڻ	ظاهر ٿيو	ظاهر ٿيو
Replied	رپلائڊ	جواب ڏنو	جواب ڏنو
Politely	پولا ٿيڻي	خوش اخلاقيءَ سان	خوش اخلاقيءَ سان
Search	سرچ	تلاش، ڳولا	تلاش
Plucked	پڪڊ	پٽيو	ٽوڙا
Delicious	ڊليشس	ذائقيدار	ذائقيدار
Certainly	سرتيني	پڪ سان	يقيناً
Rather	راڌر	اول	مقدم
Lonely	لونلي	اڪيلو	اڪيلو
Regularly	ريگيولري	باقاعده	باقاعده
Threw	ٿريو	اچليو	پھيڻڪا
Faced	فيسڊ	منهن ڏنو	سامنا ڪيا
Raising	ريزنگ	بلند ڪرڻ	بلند ڪرنا
Lack	ليڪ	گهٽتائي	ڪمي
Usual	يويوئل	اکثر ڪرڻ	اکثر ڪرڻ
Annoyed	انائڊ	ڪاوڙ ڪئي	غصه ڪيا
Managing	مئنيجنگ	انتظام ڪرڻ	انتظام ڪرنا
Hatched	هيچڊ	آني مان نڪرڻ	انڙيءَ سان نڪرڻ
Climb	ڪلائيمب	چڙهڻ	چڙهڻا
Obvious	آب وئس	ظاهر	ظاهر

Sarcasm	سرکزم	رمز	رمز
Foolish	فولش	بیوقوف	بے وقوف
Occasionally		کڈھن کڈھن	گاے گاے
Ordered	آرڈر	حکم ڈنو	حکم دیا
Declared	ڈکلیئرڈ	بتدایو	بتایا
Furious	فیورس	تند، ضدی	غضب ناک
Dilemma	ڈلیما	وہم	وہم، وسوسہ
Betray	بیٹری	دو کو ڈیٹ	دھوکا دیا
Invite	انوائٹ	دعوت ڈیٹ	دعوت دینا
Meal	میل	مانی	کھانا
Pleasure	پلیزر	خوشی	خوشی
Swimmer	سُیمر	ترنڈڑ	تیرنے والا
Intention	انتینشن	شدت	شدت
Scared	اسکیئرڈ	ڈنل	خوفزدہ
Distressed	ڈس ٹریسڈ	ڈک	دکھ، غم
Sensible	سینس ایبل	محسوس کندڑ	حساس
Calmly	کاملی	خاموشیء سان	خاموشی سے
Foolish	فولش	بیوقوف	بے وقوف
Innocently	انوسنتلی	معصومیء سان	معصومانہ
Hissed	ہسڈ	بتڈاٹ	سی سی کرنا
Relief	رلیف	فائدو	فائدہ
Sadder	سیدر	گرو، اونہو	بھاری
Genuine	جینین	اصلی	اصلی
Hurry	ہری	جلدی، تکتڑ	جلدی

Exercise

A Answer the following questions.

1. The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss?

Ans: The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete because he was alone there. He misses a companion.

2. What did the two friends generally talk about?

Ans: The two friends generally talk about birds generally talk about birds, animals, villages and difficulties faced by villagers.

3. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day?

Ans: One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting managing the little crocodiles tht had just been hatched.

4. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home?

Ans: The crocodile was unwilling to invite his friend home because he knew that it will be last day of his life."

5. What did the crocodile tell the monkey midstream?

Ans: The crocodile told the monkey midstream " I have brought you here to kill you.

6. How did the monkey save himself?

Ans: The monkey was sensible and clever, He kept a cool head. Calmly he said " I'd do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? but my heart is on the tree."

7. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife?

Ans: The crocodile would tell his wife that the monkey was

not on that tree.

8. What is the moral of story?

Ans: The moral of story is that we should not betray in friendship.

B Choose the correct answer:

1. There lived on the tree:
(a) parrot (b) monkey ✓ (c) owl
2. The monkey loved to eat:
(a) vegetables (b) meat (c) fruit ✓
3. Soon the monkey became friend with:
(a) lion (b) fish (c) crocodile ✓
4. The wife of crocodile wanted to eat the monkey's:
(a) heart ✓ (b) leg (c) brain
5. The monkey was very:
(a) angry (b) foolish (c) clever ✓

C Use the following words in sentences.

- companion I want to have a companion to talke to.
- riverside A monkey lived alone riverside.
- lonely I use to go to school lonely.
- longer Both friends used longer route to reach home.
- hesitatingly Crocodile told his friend about his death thesitatingly.
- distress The monkey was in distress.

D Fill in the blanks with suitable words:

1. The monkey was happy but lonely.
2. I did come here in search of food for myself and my wife.
3. One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual.
4. The monkey and the crocodile were now the best of friends.
5. The monkey was scared and distressed.

E Tick (✓) on true sentence and (✗) on false:

1. A monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. ✓
2. The monkey picked some fruits from the basket. ✗
3. The crocodile visited the monkey off and on. ✓
4. Crocodile decided to be on the side of his wife. ✓
5. The monkey said the crocodile to never meet him again. ✗

F Match the columns:

Column A

A monkey made
He lived in
But there was no
Nice of you
I'm rather

Column B

one around.
to offer me fruit
lonely here.
it happily.
a house for himself.

Grammar:

Study the following phrases and their meanings. Use them appropriately to complete the sentences that follow.

- look after:** take care of
look down on: disapprove or regard as inferior
look in (on someone): make a short visit
look into: investigate
look out: be careful
look up: improve
look up to: admire

- (i) After a very long spell of heat, the weather is at last.
- (ii) We have no right to people who do small jobs.
- (iii) Nitin has always his uncle, who is a self-made man.
- (iv) The police are the matter thoroughly.
- (v) If you want to go out, I will the children for you.
- (vi) I promise to on your brother when I visit Lucknow next.
- (vii) when you are crossing the main road.

The Shepherd's Treasure



ريدار جو خزانو

هڪ دفعي ايران جي هڪ ڳوٺ ۾ هڪ ريديار رهندو هو اهو ڏاڍو غريب هو. هن کي هڪ ننڍي جهوپڙي به نه هئي. هو ڪڏهن اسڪول نه ويو ۽ نه ئي لکڻ پڙهڻ سکيائين، ڇو ته انهن ڏينهن ۾ تمام ٿورا اسڪول هوندا هئا. غريب ۽ اڻ پڙهيل هئڻ باوجود ريديار تمام ڏاهو هيو.

اهو ماڻهن جي ڏڪن ۽ مسئلن کي سمجهندو هو. اهو عقل ۽ بهادريءَ سان انهن جي مسئلن سان منهن ڏيندو هو ۽ ان جي مدد ڪندو هو. ڪيترائي ماڻهو کانئس صلاح وٺندا هئا. جلد هي ريديار پنهنجي عقل ۽ دوستائي طبيعت جي ڪري مشهور ٿي ويو. ان ملڪ جي بادشاهه به ان جي باري ۾ ٻڌو ۽ ان سان ملاقات جو سوچيائين.

هڪ ڏينهن بادشاهه ريديار جو ويس مٿائي خچر تي سوار ٿي غار ۾ آيو جتي عقلمند ريديار رهندو هو. جيئن ئي ريديار مسافر کي غار ۾ ايندي ڏٺو هو کيس پليڪار چوڻ جي لاءِ اڳتي وڌيو، هن غار اندر مسافر کي ٽڪيل ڏٺو، ان مسافر کي پيئڻ لاءِ پاڻي ڏنو ۽ پنهنجو سادو کاڌو پيش ڪيو. بادشاهه رات جو غار ۾ آرام ڪيو ۽ ريديار جي مهمان نوازي ۽ ڏاهپ واري گفتگوءَ مان متاثر ٿيو.

ٽڪيل هئڻ باوجود، بادشاهه صبح جو وڃڻ جو فيصلو ڪيو. هن چيو، هڪ غريب مسافر لاءِ تنهنجي رحم دليءَ لاءِ مهرباني. منهنجي سفر جو رستو ڊگهو آهي، مون کي وڃڻ جي اجازت ڏيو. پنهنجي مهمان جي اکين ۾

ڏسندي، ريڊار جواب ڏنو، توهان جي مهرباني مون ڏانهن اچڻ جو اعزاز ڏيڻ جي لاءِ بادشاهه حيران ۽ خوش ٿيو. هن سوچيو ته هي ڏاڍو عقلمند آهي. مون کي پنهنجي لاءِ تو جهڙن ماڻهن جي ضرورت آهي. بادشاهه پرهيزگار ريڊار کي هڪ ننڍي ضلعي جو گورنر مقرر ڪيو جيتوڻيڪ سندس طاقت ۽ عظمت وڏي وئي هئي، پر پوءِ به هميشه وانگر متقي ۽ پرهيزگار رهيو. ماڻهو سندس ذهانت، همدردي ۽ سنائيءَ سبب ان سان پيار ڪندا هئا ۽ سندس عزت ڪندا هئا. هو انهن سڀني سان تمام گهڻو مهربان هو. جيڪي انصاف پسند ۽ ڏاهي گورنر جي حيثيت سان سندس شهرت جلد ئي سڄي ملڪ ۾ پکڙجي وئي.

هاڻي ٻين صوبن جا گورنر ان سان حسد ڪرڻ لڳا ۽ بادشاهه کي ان جي خلاف ورغلائڻ لڳا. اهي چوندا هئا ته هي ڏاڍو بي ايمان آهي ۽ ماڻهن مان جمع ڪيل ٽيڪس مان پنهنجو حصو کڻندو آهي. هو پاڻ سان گڏ صندوق چور ڪندو آهي، هن پنهنجي لوهي صندوق ۾ ڇا جمع ڪيو آهي؟ شايد ان ۾ خزانو رکيو آهي جيڪو هن خفيه طور جمع ڪيو آهي. انهن بغاوت ڪندي چيو ته هي عام ريڊار آهي هي سنو ورتاءُ نه ٿو ڪري سگهي. پهريان ته بادشاهه انهن شڪايتن تي ڌيان نه ڏنو، پر ڪيستائين گورنرن جي ريڊار بابت نه ختم ٿيندڙ ڪهاڻيءَ کي برداشت ڪري ها؟ هڪ شيءَ جيڪا سچ هئي، اها بادشاهه کي خبر پئجي وئي. نئون گورنر هر وقت پاڻ سان گڏ لوهي صندوق رکندو آهي. انهيءَ ڪري هڪ ڏينهن گورنر کي محل ۾ سڏائڻ جو حڪم نامو جاري ڪيو. هو پنهنجي ان تي سوار ٿي آيو ۽ هر ڪنهن کي خوش ڪرڻ لاءِ هو لوهي صندوق حفاظت سان ان جي مٿان کڻي آيو.

هاڻي بادشاهه ڪاوڙ ۾ هيو، ان رڙ ڪري چيو، تون هي لوهي صندوق پاڻ سان گڏ چور ڪندو آهين؟ هن ۾ ڇا آهي؟ گورنر مسڪرايو، هن پنهنجي نوڪر کي صندوق آڻڻ جي لاءِ چيو. ماڻهو ڪيڏي شوق ۾ چئني پاسي بيهي رهيا، ريڊار جي انتظار ۾ ته ان سان ڇا ٿيندو. پر اها ڪيتري حيرانگيءَ جي ڳالهه هئي ته جڏهن صندوق کولي وئي، بادشاهه پاڻ حيران ٿي ويو! نه سون، نه چاندي، نه زيور پر هڪ پراڻو ڪمبل ٻاهر نڪتو. ان کي فخر سان ڪڍي ريڊار چيو، هي منهنجو سامان آهي، صرف اهو ئي منهنجو خزانو آهي. مان هن کي هميشه پاڻ سان گڏ رکندو آهيان.

بادشاهه پڇيو، واقعي! تون هڪ ضلعي جو گورنر آهين، پر تون هڪ عام ڪمبل پاڻ سان گڏ چور ڪندو آهين؟ ان تي ريڊار ادب سان جواب

ڏٺو، هي ڪمبل منهنجو سڀ کان پراڻو دوست آهي. مان اڃان تائين ان جي حفاظت ڪندو آهيان، جيڪڏهن ڪنهن وقت به توهان جي طاقت پلي مون کان منهنجا اختيار واپس وٺي سگهي ٿي. بادشاهه ڏاڍو خوش ٿيو ۽ حاسد گورنر، عقلمند ماڻهوءَ جي جواب مان حيران ٿيا. هاڻي سڀني کي معلوم ٿي ويو ته ريڊار متقي هئڻ سان گڏوگڏ زمين تي سڀني کان وڌيڪ ڏاهو ماڻهو آهي. هاڻي بادشاهه کيس اڃان وڏي ضلعي جو گورنر بڻايو.

چرواهه ڪاخرانه

ايڪ دفعه ايران ڪه ايڪ گاڏن ميں ايڪ چرواها رها ٿا. وه بهت غريب ٿا. اس ڪه پاس ايڪ چھوڻي سي اپني جھونپڙي بهي نهين ٿي. وه ڪهڻي اسڪول نهين گيا اور نه پڙهنا لکھنا سيکھا، ڪيون ڪه ان دنون ميں بهت ٿوڙهه اسڪول هوتي ٿي غريب اور ان پڙهه هونئ ڪه باوجود به چرواها بهت عقلمند ٿا.

وه لوگوں ڪه دکھوں اور مسائل ڪو سمجھتا ٿا. وه عقل اور بهادري سے ان ڪه مسائل ڪا سامنا ڪرتا اور ان کي مدد ڪرتا. بهت سے لوگ اس سے مشورهه لئنه آتے. جلد بهي چرواها اپني ذھانت اور دوستانه طبيعت کي وجھه سے مشهور هوگيا. اس ملڪ ڪه بادشاهه نه بهي اس ڪه بارے ميں سنا اور اس سے ملاقات ڪا سوچا.

ايڪ دن بادشاهه ايڪ چرواهه ڪا بھيس بدل ڪر ڇپر پر سوار هو ڪر غار ميں آيا جهاں عقلمند چرواها رها ٿا. جيسه بهي چرواهه نه مسافر ڪو غار کي طرف آتے ديکھا، وه اس ڪو خوش آمديد ڪهڻه ڪه لئنه آگه بڙها، اس نه غار ڪه اندر مسافر ڪو ٿهڪا هوا ديکھا، اس نه مسافر ڪو پئنه ڪه لئنه پاني ديا اور اپنا سادھه ڪھانا پئش ڪيا. بادشاهه نه رات ڪو غار ميں آرام ڪيا اور چرواهه کي مھمان نوازي اور عقلمند گفتگو سے متاثر هوا.

ٿهڪا هوا هونئ ڪه باوجود، بادشاهه نه اگلي صبح ڪو جانئ ڪا فيصله ڪيا. اس نه ڪها، ”ايڪ غريب مسافر ڪه لئنه تمھاري رحم دلي ڪا بهت شڪريه. ميرے جانئ ڪا لمباراسته هه. مجھه جانئ ڪي اجازت دو.“ اپنے مھمان کي آنکھوں ميں سيدھا ديکھتے هونئ، چرواهه نه جواب ديا، ”آپ ڪا شڪريه، ميري طرف آنئ ڪا اعزاز دينئ ڪه لئنه.“ بادشاهه حيران اور خوش هوا. اس نه خود سوچا ڪه به بهت بهي عقلمند هه. مجھه اپنے لئنه تم جيسه لوگوں کي

ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اس متقی چرواہے کو ایک چھوٹے ضلع کا گورنر مقرر کیا۔ اگرچہ اس کی طاقت اور عظمت بڑھ گئی تھی، لیکن چرواہا ہمیشہ کی طرح متقی رہا۔ لوگ اس کی ذہانت، ہمدردی اور اچھائی کی وجہ سے اسے پیار کرتے اور اس کو عزت دیتے۔ وہ ان سب کے ساتھ بہت مہربان تھا۔ ایک انصاف پسند اور عقلمند گورنر کی حیثیت سے اس کی شہرت جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئی۔

اب دوسرے صوبوں کے گورنر خوف سے اس سے جلنے لگے اور بادشاہ کو اس کے خلاف کہتے ورغلانے لگے۔ وہ کہتے، یہ بہت بے ایمان ہے اور لوگوں سے جمع کیے ہوئے ٹیکس سے اپنے لیے حصہ لیتا ہے۔ ”یہ اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے، اس نے اپنے لوہے کے صندوق میں جمع کیے ہیں؟ شاید اس نے خزانہ رکھا ہے جو اس نے خفیہ طریقے سے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عام چرواہا ہے اور یہ اچھا سلوک نہیں رکھ سکتا۔

پہلے تو بادشاہ نے ان شکایتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن وہ کب تک ان گورنروں کو چرواہے کے بارے میں نہ ختم ہونے والی کہانی کو برداشت کرتا؟ ایک چیز جو سچ تھی، وہ بادشاہ کو معلوم ہو گئی۔ نیا گورنر ہر وقت اپنے ساتھ لوہے کی صندوق رکھتا ہے۔ اس لیے، ایک دن گورنر کو محل میں بلانے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ لوہے کا صندوق حفاظت سے اونٹ کے اوپر باندھ کر اپنے ساتھ لایا۔

اب بادشاہ غصے میں تھا۔ وہ گرجا (چنجا)، تم یہ لوہے کا صندوق اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ اس میں کیا ہے؟ گورنر مسکرایا۔ اس نے اپنے ملازم سے صندوق کو لانے کے لیے کہا۔ لوگ کتنے شوق سے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں ہو گئے چرواہے کے انتظار میں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ کتنی حیرانی کی بات تھی کہ جب صندوق کھولا گیا بادشاہ خود بھی حیران ہوا! نہ سونا، نہ چاندی نہ زیورات لیکن ایک پرانہ کمبل باہر نکلا۔ اس کو فخر سے پکڑ کر چرواہے نے کہا، ”یہ میرا سامان ہے، صرف یہ ہی میرا خزانہ ہے۔ میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔

بادشاہ پوچھا، ”واقعی! تم ایک ضلع کے گورنر ہو، لیکن تم ایک عام سا کمبل اپنے

ساتھ کیوں رکھتے ہو؟“ اس پر چرواہے نے ادب سے جواب دیا، ”یہ کمبل میرا سب سے پرانہ دوست ہے۔ میں ابھی تک اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر کسی وقت بھی آپ کی طاقت چاہے مجھ سے میرا نئے اختیارات واپس لے سکتے ہو؟ بادشاہ کتنا خوش ہوا اور جلنے والے گورنر کتنے حیران ہوئے عقلمند آدمی کے جواب سے! اب سب کو معلوم ہو گیا کہ چرہاوا متقی ہونے کے ساتھ یہ زمین پر سب سے عقلمند آدمی ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو مزید بڑے ضلع کا گورنر بنایا۔

DIFFICULT WORDS AND MEANING

Shepherd	شیفرد	ریدار	بھیڑیں چرانے والا
Cottage	کاتیج	جھوپڑی	جھوپڑی
Uneducated	ان ایجوکیتید	اٹ پڑھیل	اُن پڑھ
Understood	اندر سٹد	سمجھی ویو	سمجھ گیا
Trouble	کامن	عام	عام
Courage	کریج	حوصلو ڈیٹ	حوصلہ دینا
Common	کامن	عام	عام
Sense	سینس	عقل	عقل
Advice	ایڈوائس	صلاح	صلاح، مشورہ
Famous	فیمس	مشہور	مشہور
Disguised	ڈسگائیزڈ	لباس بدلیل	بھیس بدلا ہوا
Traveler	ٹریولر	مسافر	مسافر
Tired	ٹائرڈ	ٹکیل	تھکا ہوا
Meager	میگر	سنھو	دبلا
Impressed	امپریسڈ	متاثر ٹیو	متاثر ہوا
Hospitality	ہاسپی تلتی	میزبان	میزبان
Conversation	کنورزیشن	سوال، جواب	سوالات جوابات
Depart	ڈپارٹ	وجٹ	چلا جانا
Permit	پرمت	اجازت نامو	اجازت نامہ

Majesty	مءجستي	شان	شان
Compliment	كمپلي مينت	تعريف كرن	تعريف كرنا
Astonished	ايسٹانشبڊ	حيران ٿيو	حيران هوا
Indeed	انڊيڊ	اصل ۾	در اصل
Appointed	اڀائينٽيڊ	مقرر ٿيو	مقرر هوا
Humble	همبل	نرم دل	نرم دل
Dignity	ڊگنٽي	عظمت	عظمت
Sympathy	سيمپٿي	همدردي	همدردي
Goodness	گڊنيس	پلائي، چڱائي	بھلائي، اچھائي
Terribly	ٽيريبلِي	بري طرح	بري طرح
Jealous	جيليس	ساڙڪندڙ	حاسد
Dishonest	ڊس آنيست	بي ايمان	بے ايمان
Secretly	سيڪريٽلي	رازداريءَ سان	رازداريءَ سے
Mockingly	موڪنگلي	طنزيه طور	طنزيه طور پر
Pay attention	پي اٽينشن	ڌيان ڏيڻ	توجہ دینا
Ignore	اڱنور	نظر انداز ڪرڻ	نظر انداز ڪرنا
Discovered	ڊسڪورڊ	ظاهر ڪرڻ	ظاهر ڪرنا
Iron chest	اٽرن چيسٽ	لوه واري پيٽي	لوه والے پیٽي
Fastened	فاسٽنڊ	بتل	باندھي هونئي
Securely	سيڪيورلي	حفاظت سان	حفاظت سے
Servant	سرونت	نوڪر، ملازم	ملازم، خادم
Eagerly	ايگرلي	شوق سان	شوق سے
Astonishment	ايسٽانشمينٽ	حيرت	حيرت
Jewels	جيولس	زيورات	زيورات
Blanket	بليڪٽ	ڪمبل	ڪمبل
Holding	هولڊنگ	پڪڙڻ، جهلڻ	پڪڙنا
Surely	شوئرلي	پڪ سان	يقيناً

District	ڈسٹرکٹ	ضلعو	ضلعہ
Cloak	کلاک	جبو	لبادہ
Pleased	پلیزڈ	خوش تھیو	خوش ہوا
Embarrassed	امبریسڈ	پریشان کرڻ	الجانا

Exercise

A Answer the following questions.

- Who visited the shepherd one day, and why?
Ans: The king visited the shepherd one day because he wanted to meet him.
- Why did the other governors grow jealous of the shepherd?
Ans: The other governors grew jealous of the shepherd the people loved and honoured him for his wisdom, sympathy and goodness. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country.
- Why was the new governor called to the palace?
Ans: One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time, so the new governor was summoned to the place.
- Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back?
Ans: Every one was delighted to see the iron chest on the camel's back because They knew that there is a treasure in the chest.
- What did the iron chest contain?
Ans: The iron chest contained with an old blanket.
- Why did the shepherd always carry it the iron chest?
Ans: The Shepherd always carried it the iron chest because, there is an old blanket in it and this old blanket was his friend and protected it any time.
- How did the king reward the new governor?

Ans: Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king rewarded and made him the governor of a much bigger district.

B Choose the correct answer:

- The shepherd was very:
(a) jealous (b) wise ✓ (c) foolish
- Shepherd lived in the village of:
(a) Iran ✓ (b) Iraq (c) China
- Many people came to him for:
(a) wealth (b) advice ✓ (c) medicines
- The king was impressed from:
(a) minister (b) shepherd ✓ (c) soldier
- The shepherd always took with him:
(a) an iron chest ✓ (b) a silver chest (c) a gold chest

C Tick (✓) on true sentence and (✗) on false:

- Shepherd was very poor. ✓
- The shepherd was very foolish. ✗
- The king rested for the night in the cave. ✓
- The king was angry with shepherd. _____
- This blanket is my oldest friend. ✓

D Fill in the blanks with suitable words:

- Though poor and uneducated, this shepherd was very wise.
- Many people came to him for advice.
- The king was astonished as well as pleased.
- I need people like him to work for me.
- Why do you carry such an ordinary blanket with you?

E Use the following words in sentences.

- poor Aslam was very poor, but now he is rich man.
wise Shapherd was uneducated but very wiseman.
traveller I saw a traveller, he was travelling through the forest.

great This is wonderful and great idea.
 impressed The king impressed by the shepherd's hospitality.
 jealous Many other governors were jealous of him.
 carry I can carry it within a minute.

F Underline the adjectives in the following sentences.

1. The motorcycle is old.
2. Today is cloudy and hot.
3. The man wearing a blue suit is young.
4. The runner is very fast.
5. He is a good basketball player.
6. The blue bus is late.
7. Shumaile is so smart!
8. The job was difficult, but manageable.
9. The silly man laughed uncontrollably.
10. The boy said he was sorry.

G Match the columns:

Column A

Column B

<p>The shepherd solved the problems</p> <p>The king was</p> <p>The shepherd was riding</p> <p>He stayed a night</p> <p>The other governors were jealous</p>		<p>of the shepherd</p> <p>with his common sense</p> <p>in the cave</p> <p>very impressed</p> <p>on a mule</p>
---	--	---



مان کير آهيان

عائش:

منهنجي پسندیده سرگرمي وڻ تي چڙهڻ آهي. اسان جي گهر کان ٿورو پري، هڪ زيتون جو وڻ آهي جنهن تي چڙهڻ مون کي پسند آهي. ان جون شاخون گهڻيون ڦهليل آهن، انهيءَ ڪري چڙهڻ آسان آهي، ۽ مان ٻن شاخن جي وچ ۾ آرام سان ويهي سگهان ٿي. منهنجي ماءُ مون کي چوندي آهي ته چوڪرين جو وڻ تي چڙهڻ سٺي ڳالهه نه آهي، پر هڪ دفعي منهنجي جو هو به وڻ تي چڙهي ويئي. اسان اتي ويهي ڳالهيون ڪيون سين ۽ ڪچا زيتون کاڌا. جڏهن وڻ تي چڙهيس، مون کي ائين محسوس ٿيو جيئن مان سڄي دنيا تي حڪومت ڪري سگهان ٿي.

ناصر:

جڏهن مان وڏو ٿيندس، مان بچ جمع ڪرڻ وارو ٿيڻ چاهيان ٿو. اسان جي ڳوٺ ۾ اسان جون وڻ جون پوکون آهن ۽ هر سال منهنجو والد وٺڻ جا ٻوٽا وڌائڻ لاءِ تمام گهڻو خرچ ڪري بچ خريد ڪندو آهي. منهنجي ڏاڏي ٻڌايو ته ڪيترا ئي سال پهرين پنهنجي ٻوٽن مان بچ جمع ڪندو هئس جيڪي ايندڙ سال پوکڻ لاءِ استعمال ڪندو هئس. مان پڇڻ جي ڪوشش ڪئي ته هو ائين چو ڪندو هو، اها سڪڻ جي ڪوشش ڪئي ته هو بچن کي ڪيئن محفوظ رکندو هو، جو اسان انهن کي ٻيهر استعمال ڪري سگهون ٿا. هر سال خرچ نه ڪيون.

انصار:

مون وٽ تمام گهڻو پيسو آهي ۽ مان سفر ڪندو آهيان. مان

نيوزيلينڊ جي پهاڙن کي ڏسڻ چاهيان ٿو ڇو ته ميگزين جي تصوير ۾ اهي خوبصورت نظر اچن ٿا. منهنجي خواهش آهي ته مان ڏکڻ آمريڪا جي اميزون درياءَ ۾ ننڍڙي بيٽي ۾ سفر ڪريان مان دلڪش ماترين جي ڪنارن تي رهڻ چاهيان ٿو ۽ مان هيٺ ٿي هڻي سامونڊي رازن کي ڏسڻ چاهيان ٿو. مان فرض ڪريان ٿو ته مون کي قديم شهر جهڙوڪ چين ۾ بيجنگ ۽ مصر جا احرام به گهمڻ گهرجن. پر اصل ۾ قدرتي ۽ تمام پراڻين تصويرن مان لطف اندوز ٿيندو آهيان.

عائزه:

جيئن مان وڏي ٿينديس مان پاڪستان جي وزير اعظم ٿينديس جڏهن مان ائين چوندي آهيان ته ماڻهو مون تي هميشه کلندا آهن پر مون کي پاڻ تي يقين آهي ته مان ٿينديس. منهنجي ڪلاس ۾ هر ڪوئي مون کان پڇندو آهي، جڏهن انهن کي ڪوئي مسئلو ٿيندو آهي. ۽ جڏهن اسڪول ۾ ڪجهه ڪرڻو هوندو آهي ته ٽيچر جو مون تي پورو يقين هوندو آهي مان سڀني جي لاءِ بهتر ڪرڻ چاهيان ٿي. مان سٺا اسپتال ۽ رستا ۽ اسڪول ٺاهڻ چاهيان ٿي، مان يقينن چاهيان ٿي ته پاڪستان ۾ ڪيترائي سائنسدان هجن جيڪي بيمارن جي لاءِ علاج ۽ مريخ تي وڃڻ جي لاءِ اڏڻ کٽولو ايجاد ڪن.

میں کون ہوں؟

عائشه:

ميري پسنديدہ سرگرمي درخت پر چڙهنا ہے۔ ہمارے گھر سے تھوڙا سا باہر، ايڪ امرود کا درخت ہے جس پر مجھے چڙهنا پسند ہے۔ اس کي شانين باہر تک پھيلي ھوئي ھيں، اس ليے اس پر چڙهنا آسان ہے، اور ميں دو شاخون کے درميان آرام سے بيٺھ سکتی ھوں۔ ميري امي مجھ سے کہتی ھيں کہ لڙڪيون کا درخت پر چڙهنا اچھي بات نھيں، ليکن ايڪ دوپھر کو وہ بھي درخت پر چڙھ گئيں۔ ہم دونوں نے وہاں بيٺھ کر باتين کيں اور ڪچے امرود کھائے۔ جب درخت کے اوپر چڙھي، ميں نے ايسا محسوس ڪيا جيسے ميں پوري دنيا پر حڪومت ڪر سکتی ھوں۔

ناصر:

جب سے ميں بڙها ھوا ھوں، ميں بچ جمع ڪرڻے والا بننا چاھتا ھوں۔ ہمارے گاؤں ميں ہمارے ڪپاس کے ڪھيت ھيں اور ہر سال ميرے ابو ڪپاس کے پودے بڙھانے کے ليے بہت

سارے پیسے خرچ کر کے نئے بیج خریدتے ہیں۔ میرے دادا نے مجھے بتایا کہ بہت سالوں پہلے میں اپنے پودوں سے بیج اکٹھا کر سکتا تھا جو اگلے سال کے بونے کے لیے ہمیں ہر سال نئے بیج خریدنے کے لیے بہت سارے بیج خریدنا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کی کوشش کی وہ بیجوں کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہر سال خرچ نہیں کرتے۔

انصار:

میرے پاس بہت بڑی مقدار میں پیسہ ہے اور میں سفر کرتا ہوں۔ میں نیوزی لینڈ کے پہاڑوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کیوں کہ میگزین کی تصویر میں یہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں جنوبی امریکا کے امیزون دریا پر چھوٹی کشتی میں سفر کروں۔ میں دلکش وادیوں کے ساحلوں پر رہنا چاہتا ہوں اور میں نیچے غوطہ لگا کر سمندری رازوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں فرض کرتا ہوں کہ مجھے قدیم شہر جیسے چین میں بیجنگ اور مصر کے احرام بھی گھومنے چاہیں لیکن اصل میں قدرتی اور بہت پرانی تصویروں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔

عائزہ:

جیسے ہی میں بڑی ہو جاؤں گی، میں پاکستان کی وزیراعظم بنوں گی۔ جب میں یہ کہتی، لوگ ہمیشہ مجھ پر ہنستے ہیں لیکن مجھے خود پر یقین ہے کہ میں یہ بنوں گی۔ میری جماعت میں ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوں گے تو تم کیا کرو گی، اور میری استانی ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں کہ اگر اسکول میں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں پورا کروں گی۔ میں ہر کسی کے لیے چیزوں کو بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ میں اچھے ہسپتال اور سڑکیں اور اسکول بنانا چاہتی ہوں۔ میں یہ یقیناً بنانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے سائنسدان ہوں جو بیماریوں کے لیے علاج اور مرتخ پر جانے کے لیے اٹن طشتری ایجاد کریں۔

DIFFICULT WORDS AND MEANING

Activity	ایکتوتی	مشغولی	مشغولی
Climbing	کلائمینگ	چڑھن	چڑھنا
Outside	آئوت سائید	باہر	باہر
Comfortably	کمفرٹیبل	آرام سان	آرام سے
Sensible	سینس ایبل	حساس	حساس
Collector	کلیکٹر	گڈ کنڈز	جمع کرنے والا
Buying	بائنگ	خرید کرڻ	خرید کرنا
Grandfather	گرانڈ فادر	ڈاڈو، نانو	دادا، نانا
Sown	سون	پوکڻ	بوننا
Preserve	پررزو	حفاظت کرڻ	حفاظت کرنا
Amount	امائونٹ	رقم	رقم
Magazine	مئگزين	رسالو	رسالہ
Amazon	امیزون	دریاء جو نالو	دریا کا نام
Raft	رافٹ	بیڑو	بیڑا
Pyramid	پیرامب	مخروط	مخروط
Actually	ایکچوٹلی	اصل ۾	اصل میں
Building	بلڈنگ	دھڻ، عمارت	بنانا، عمارت
Prime Minister	پرائم منسٹر	وزیر اعظم	وزیر اعظم
Sure	شوئر	پڪ	یقین
Trust	ٹرسٹ	پروسو	اعتبار
Invent	انوینت	ایجاد کرڻ	ایجاد کرنا
Cure	کیور	علاج	علاج
Spaceship	اسپیس شپ	خلائی جہاز	خلائی جہاز

Exercise

A Answer the following questions.

1. Nasir wants to learn _____
Ans: Nasir wants to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend every year.
2. Ayza believes that she can make a good Prime Minister because.
Ans: Ayza believes that she can make a good Prime Minister because Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone.
3. Why Ayesha's mother always forbade her to climb up the trees?
Ans: Ayesha's mother always forbade her to climb trees because she said it is not sensible for girls to climb trees.
4. Why Nasir wanted to collect cotton seeds?
Ans: Nasir wanted to collect cotton seeds because he has cotton fields in his village and every year, his father spends a lot of money on buying new seeds to grow cotton plants.
5. What was the wish of Ansar?
Ans: The wish of Ansar was to have a huge amount of money to travel and travel. He wanted to see the mountains of New Zealand. He wanted to live on beaches.

B Choose the correct answer:

1. Love to climb up the tree:
(a) Ayesha ✓ (b) Fatima (c) Ali
2. Ansar wants to travel the Beijing in:
(a) India (b) China ✓ (c) America

3. Nasir wants to collect the:
 (a) Seeds ✓ (b) Coins (c) Tickets
4. Her teacher always trusts her:
 (a) Aiman (b) Ayza ✓ (c) Ayesha
5. Ayza wants to become a:
 (a) Doctor (b) Teacher (c) Prime Minister ✓

C Use the following words in sentences.

favourite Mutton Biryani is my favourite dish.

afternoon I'll come to you at after noon.

spend Deer friend please spend this vacation with us
in our village.

travel I like to travel and to see the whole world.

actually Actually I love to climb the trees.

problem This is not a big problem.


D Fill in the blanks with suitable words:

1. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees.
2. We have cotton fields in our village.
3. If I had a huge amount of money I would travel and travel.
4. I suppose I should go to the old city in Beijing in China.
5. I want to make things better for everyone.

E Match the columns:

Column A

Ayesha has a
Nasir wants to
Ansar is fond of
Ayza wants to make
Ayesha likes to eat



Column B

collect the seeds
roads and hospitals
raw mangoes
Garden in her house
Travelling

F Tick (✓) on true sentence and (✗) on false:

1. Nasir lives in the city. ✓
2. Ayesha's mother enjoys doing things with her. ✗
3. Ayza wants to become a Prime Minister. ✓
4. When I am high in the sky I feel scared. ✗
5. I wish I could sail down the Amazon river in South America on a raft. ✓


Grammar:

Some words have similar sounds, but different meanings.

Choose the correct word from the box and fill in the blanks.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| The bird sits on a <u>bough</u> . | (bow, bough) |
| The squirrel has a long <u>tail</u> . | (tail, tale) |
| I have to leave at <u>two</u> . | (too, two) |
| This sum is <u>right</u> . | (right, write) |
| I can <u>hear</u> the bird's song. | (hear, here) |
| Do you <u>know</u> a secret? | (no, know) |
| The King sits on the <u>throne</u> . | (thrown, throne) |
| He is our school <u>principal</u> . | (principal, principle) |

Aunt Shabana's Kitchen



آنتي شابه جو بورچي خانو

- آنتي شابه: اسان رات جي کاڌي ۾ بيخني ناهينداسين.
عائزه: ها، زبردست! مون کي بيخني پيئڻ پسند آهي.
آنتي شابه: اچو، پهريان هٿ ڏوئون.
عائزه ۽ ايمن: نيڪ آهي آنتي.
آنتي شابه: اسان کي تمانا، گجرون، آلو، مزيدار... ۽ ٻيو ڇا؟ ڪدو، بند گوبي، داليون ۽ ڪڙيءَ جي پنن جي ضرورت آهي. ايمن ڇا تون مون کي ٿوم، ڪڙي پاڻوڊر، لوڻ ۽ ڪارا مرچ ڏئي سگهين ٿي؟
ايمن: هي ڪٿي پيا آهن؟
آنتي شابه: اهي الماڙيءَ ۾ آهن.
ايمن: ها، هي وٺو. ڇا مان سبزي ڏوئي وٺان؟
آنتي شابه: ها، مهرباني ڪري ڏوئي وٺو. عائزه ڇا تون آلو، بصرن ۽ گجرن جون ڪلون لاهيندين؟
عائزه: ها، آنتي مان ڪريان ٿي.
آنتي شابه: تمام سنو! ڪنزه تون ڇا ڪري رهين آهين؟
ڪنزه: مان ٿانو ڏوئي رهي آهيان.

آنتي شبانه: اڙي واه! هڪ چمچو به ڏوئي وٺ. هاڻي ڦريون صاف ڪر
 ۽ سبزيون ڏوئي وٺ.
 ايمن: ڇا اهو مان ڪريان؟
 آنتي شبانه: ها مهرباني ڪري ڪر، سبزين کي ننڍن ٽڪرن ۾ ڪير
 ڪٽيندا.
 ايمن ۽ عائزه: اهو اسان ڪنداسين.
 آنتي شبانه: مان تماتا ڪٽينديس ۽ ٿور ڪٽي وٺنديس.
 ڪنزه: ڇا مان باهه ٻاريان.
 آنتي شبانه: نيڪ آهي. هاڻي تانوَ ۾ سبزيون ۽ ڪجهه پاڻي وجهو. هاڻي
 هن ۾ ٻيا غزائي جزا وجهو. ۽ هن کي اٻرڻ لاءِ رکو.
 ايمن: مزيدار... هن جي خوشبوءِ سٺي آهي.
 آنتي شبانه: اچا! عائزه هن ۾ چپٽي پيريل لوڻ جي ۽ ڪارا مرچ وجهو ۽
 مهرباني ڪري چلهو بند ڪريو.
 عائزه: ڪنزه مهرباني ڪري ميز تي ڪپڙو وڃاءِ ۽ هاڻي رات جي
 کاڌي لاءِ اچو.

آنٽي شبانه ڪا باورچي خانه

آنٽي شبانه: هم رات ڪهانه ميں سوپ بنايئڱے۔
 عائزه: هاں، زبردست! مجھے سوپ پيئنا پسند ہے۔
 آنٽي شبانه: آؤ، پھلے هم ہاتھ دھولیں۔
 عائزه اور ايمن: ٺھيڪ ہے آنٽي۔
 آنٽي شبانه: همیں ٺمائڙوں، گاجروں، آلو مزے دار۔۔۔۔ اور ڪيا؟ ڪدو، بند گو بهي، دالين
 اور ڪڙي ڪے پٽوں کي ضرورت ہے۔ ايمن، ڪيا تم مجھے لهسن، ڪڙي پاؤڊر،
 نمڪ اور ڪالي مرچين لاکر دے سکتی هو؟
 ايمن: يه ڪهاں هيں؟
 آنٽي شبانه: يه الماري ميں هيں۔
 ايمن: هاں يه لے لو۔ ڪيا ميں سبزياں دھو دوں؟
 آنٽي شبانه: برائے مهرباني هاں۔ عائزه ڪيا تم آلو، پياز اور گاجروں ڪے ڇھلڪے اتار دوڱي؟
 عائزه: هاں، آنٽي ميں يه ڪر دوں گي۔

- آنٹی شبانہ: بہت اچھا! کنزہ تم کیا کر رہی ہو؟
کنزہ: میں برتن دھورہی ہوں۔
- آنٹی شبانہ: ارے اچھا! ایک پیچ بھی دھو دو۔ اب لویے صاف کر دو اور سبزیاں دھو دو۔
ایمن: کیا میں یہ کر دوں؟
- آنٹی شبانہ: ہاں، برائے مہربانی۔ کون سبز یوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹے گا؟
ایمن اور عائزہ: یہ ہم کریں گے۔
- آنٹی شبانہ: میں ٹماٹر کاٹ لوں گی اور لہسن کوٹ لوں گی۔
کنزہ: کیا میں آگ جلاؤں؟
- آنٹی شبانہ: ٹھیک ہے۔ اب برتن میں سبزیاں اور کچھ پانی ڈالو۔ اب اس میں دوسرے
غذائی اجزاء ڈالو اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دو۔
ایمن: مزے دار۔۔۔۔۔ اس کی خوشبو اچھی ہے۔
- آنٹی شبانہ: اچھا! عائزہ اس میں چٹکی بھر نمک اور کالی مرچیں ڈالو اور برائے مہربانی
چولہا بند کر دو۔
- عائزہ: کنزہ برائے مہربانی میز پر کپڑا بچھاؤ، اور اب رات کے کھانے کے لیے آ جاؤ۔

DIFFICULT WORDS AND MEANING

Soup	سوپ	بخنی	بخنی
Dinner	ڈنر	رات جو کاڈو	رات کا کھانا
Wonderful	ونڈر فل	عجیب، نادر	عجیب، حیرت انگیز
Alright	آل رائٹ	صحیح	صحیح
Carrot	کیرٹ	گجر	گاجر
Bean	بین	قري	پھلی، بین
Else	ایلس	بیو	دوسرا
Pumpkin	پمپکن	کدو	کدو
Cabbage	کیبیج	گوبی	گوبی
Curry leaves	کري لیوز	کڑھی، جا پن	کری کے پتے

curry powder	کري پائوڊر	کڙهي پائوڊر	کري پاوڊر
Pepper	پيپر	کارا مرچ	کالی مرچ
Onion	اونين	بصر	پياز
Washing	واشنگ	ڌوئڻ	دھونا
Piece	پيس	تڪرو	ٽڪرا
Dice	ڊائيس	پاسو اچلائڻ	پاسا پھيننا
Garlic	گارلڪ	ٿوم	لھسن
Pour	پور	وجھڻ	انڙيلنا
Ingredients	ان گريڊينٽس	سامان	سامان
Pinch	پنچ	چونڊي پائڻ	چٽڪي بھرنا

Exercise

A Answer the following questions.

1. What did aunt Shabana make for dinner?

Ans: Aunt Shabana made soup for dinner.

2. Who peeled the potatoes and onions?

Ans: Ayza peeled the potatoes and onions.

3. What did Kanza do?

Ans: Kanza washed the pot.

4. Does aunt Shabana help the children or not?

Ans: Yes, Aunt Shabana helped the children.

5. Who washed the vegetables and lit fire?

Ans: Aiman washed the vegetables and Kanza lit the fire.

6. What were the ingredients of the soup?

Ans: The ingredients of the soup were tomatoes, carrots, beans, potatoes, puls, curry leaves, garlic, curry powder, salt and pepper.

B Choose the correct answer:

- All the children were in aunt Shubana's:
(a) bedroom (b) lounge (c) kitchen ✓
- Aunt shabana is making a soup for:
(a) dinner ✓ (b) lunch (c) breakfast
- Ayza peeled the potatoes and:
(a) tomato (b) onion ✓ (c) garlic
- Kanza washed the:
(a) clothes (b) fruits (c) pots ✓
- Washed all the vegetables:
(a) Kanza (b) Ayza (c) Aiman ✓

C Fill in the blanks with suitable words:

- We are making a soup for dinner.
- We need tomatoes, carrots, beans, potatoes for soup.
- Ayza, can you peel the potatoes, onions and carrot?
- Who can cut the vegetables into small pieces?
- Kanza, please put the table cloth, Let's have dinner, now.

D Tick (✓) on true sentence and (✗) on false:

- | | |
|---|----------|
| 1. Children were in the kitchen of aunt Sara. | <u>✗</u> |
| 2. Ayza loves to eat the soup. | <u>✓</u> |
| 3. Kanza did not wash pots. | <u>✗</u> |
| 4. The soup smell was very good. | <u>✓</u> |
| 5. They made the soup for dinner. | <u>✓</u> |

E Use the following words in sentences.

- wonderful It is wonderful scene of nature.
tomatoes Who peel the tomatoes for soup?
cupboard All the kings are in the cupboard.
please Please give me a glass of water.
Alright Alright dear, you may go now.
dinner They were making a soup for dinner.


F Write down the plurals of singulars.

singular	plural	singular	plural	singular	plural
pot	pots	vegetable	vegetables	pepper	peppers
bean	beans	potato	potatoes	leaf	leaves

H Match the columns:

Column A

They are
I am
What are
We are making
First let's



Column B

you doing.
a soup for dinner.
wash our hands.
washing a pot.
in the cupboard.

Grammar:

Use punctuation as necessary.

Example: Are we going to the playground today?

1. What's the time?
2. Do you want another piece of cake?
3. I need a break.
4. It is 5:00 p.m. now.
5. May I come in, teacher?
6. Did the dairy farmer find his cow?
7. Mother needs sugar to make tea.
8. What colour is it?
9. Was it raining in the morning?
10. It will be sunny tomorrow.

Activity

Here are the steps to make a soup. Read and match the pictures.


- a. Wash the vegetables.
- b. Cut the vegetables into small pieces.
- c. Put them into a pan and add water.

- d. Add some pepper, salt and then cook.
- e. Now let's enjoy the soup.



HELEN KELLER

هیلن کیلر



اها 1880ع جي گرميءَ هئي. هڪ تندرست ٻارڙي هڪ ننڍي ڳوٺ الباما ۾ پيدا ٿي. والدين پنهنجي ننڍڙيءَ سان پيار ڪيو ۽ سندس نالو هيلن ڪيلر رکيو. پر هڪ ڏينهن، ٻارڙي بيمار ٿي پئي ۽ ڏينهو ڏينهن سندس بخار تيز ٿيندو ويو.

خاندان ۾ هر ڪنهن سندس مدد ڪئي ته هو صحیح ٿي وڃي، پر سڀني چيو، هاڻي وڌيڪ ڪجهه نٿا ڪري سگهون، ٻارڙي هاڻي جيئري نه ٿي رهي سگهي. هيلن بچي وئي. پر بيماريءَ سبب اها پهريان جيان نه رهي. سندس ماءُ چيو، ڪجهه مسئلو آهي، آخر ۾ کيس پتو پئجي ويو ته ڇا مسئلو آهي. ٻارڙي ڳالهائي نه پئي سگهي ۽ ٻڌي به نه پئي سگهي.

ننڍڙي ٻارڙي وڏي ٿي هڪ جوان چوڪري ٿي وئي. کيس ڏسي والدين کي گهڻو ڏک ٿيندو هو. هيلن ڪڏهن ڪڏهن والدين تي رڙيون ڪندي هئي. هن جو پيءُ چوندو هو ته هيءُ جيڪو ڪجهه چاهي ٿي هن کي ڏيو. جيتوڻيڪ هيلن ڏسي ۽ ٻڌي نه پئي سگهي پر خوبصورت چوڪري هئي. ڪجهه ماڻهن جو خيال هو ته هيلن ڪجهه نه سگهي سگهندي. ان جي ماءُ اهو نه مڃيو. هيلن تمام گهڻي سياڻي آهي، سندس ماءُ چيو ۽ ڳالهه وڌائيندي چيو مسئلو اهو آهي ته اسان ڪهڙي نموني هن تائين پڄون؟ هن پنهنجو پاڻ کي ڪمري اندر واڙي ڇڏيو، هيلن وڏي ٿي ڪاوڙ واري ٿي وئي. هو پنهنجي وارن ۾ ڪنهن کي ڦٽي ڏيڻ نه ڏيندي هئي. سندس ڪپڙا هميشه خراب هوندا هئا. اها ڪڏهن ڪڏهن ناراض ٿي ويندي هئي، ڪڏهن ڪڏهن اها فرش تي سمهي پوندي هئي ۽ دڙيون هڻندي هئي. هن جي والدين سوچيو ته سندس لاءِ ڪائي استاڊياڻي ڳولڻ گهرجي. هڪ نوجوان استاڊياڻي، مس سليوان هيلن جي مدد ڪرڻ، پڙهائڻ ۽ دنيا ڏيکارڻ لاءِ راضي ٿي وئي. مس سليوان هيلن کي هڪ گڏي ڏني ۽ کيس هجي ڪرايائين ڊال.